

13 نومبر 2018

امیزون ایچ کیو ٹو (Amazon HQ2) کے فیصلے پر برامپٹن کا رد عمل

برامپٹن، آن - امیزون کی جانب سے آج پہلے پہر جاری ہونے والی پریس ریلیز کے مطابق، اُس نے اپنے نیویارک سٹی اور ایئرلینگٹن، ورجینیا ہیڈکوارٹرز کو وسعت دینے کا اعلان کیا ہے۔

سٹی آف برامپٹن اس میں شارٹ لسٹ ہونے پر فخر محسوس کرتا ہے، جو کہ ٹورانٹو گلوبل کے ذریعے دی جانے والی ٹورانٹو ریجن ہڈ کے ایک حصے کے طور پر ممکن ہوا ہے اور یہ 20 کی فہرست میں کنیڈا کا اکیلا شہر ہے۔

اس سے یہ بات کھل کر سامنے آ گئی ہے کہ برامپٹن اور ٹورانٹو کے بقیہ علاقے اپنی پرکشش کاروباری سرمایہ کاری کے مواقع حوالے سے پوری دنیا میں جانے پہچانے جاتے ہیں۔ ملازمتوں اور سرمایہ کاری کے حوالے سے برامپٹن ایک تسلیم شدہ مسابقت کار ہے اور اپنا یہ رجحان عالمگیر سطح پر جاری رکھے گا۔ امیزون کے لیے اس علاقے کے مثبت ماحول کو نمایاں کرنے والی ہڈ ٹک کو اب تک 17,000 سے زیادہ مرتبہ ڈاؤن لوڈ کیا جا چکا ہے۔

امیزون کو پیش کیے جانے والا مقام - CAA لینڈز - کو ملازمتوں اور سرمایہ کاری کے حوالے سے شہر کی دلکش حکمت عملی کا لازمی جزو بنایا گیا تھا۔ اس جگہ کے بارے میں اپ ٹاؤن برامپٹن 2040 ویژن کا حوالہ دیا گیا ہے، جو کہ شہر کے مستقبل کے حوالے سے کثیر الاستعمال نوعیت کا مرکزی نقطہ ہو گی۔ یہ جگہ ترقی کے مواقع کے حوالے سے کلیدی حیثیت رکھتی ہے جس میں 110 ایکڑ سے زیادہ سرکاری اراضی موجود ہے؛ یہ انتہائی قیمتی زمین ہے اور دو بڑی شاہراہوں کے پاس ہے اور بڑے ایئرپورٹ سے چند منٹ کی مسافت پر واقع ہے۔

برامپٹن کی جانب سے امیزون HQ2 ہڈ جمع کرانے کے بعد اب تک سٹی انتظامیہ نے اس جگہ کو سرمایہ کاری کے لیے تیار کرنے کے لیے مسلسل جدوجہد کی ہے، اس کو فروغ دینے کے لیے بنیادی نوعیت کے مطالعہ جات مکمل کیے گئے ہیں اور مزید ترقی دینے کے لیے ضروری تصورات اور ماڈلز کی چھان بین کی ہے۔ اس جگہ پر مشترکہ سرمایہ کاری کے مواقع کی چھان بین کے لیے سٹی کے عملہ نے مختلف حکومتی سطحوں پر ربط سازی کا عمل جاری رکھا، بشمول اس جگہ کو 410 اور 407 ہائی ویز سے مربوط کرنا

تیز ترین بڑھتی ہوئی آبادی کے لحاظ سے کنیڈا کا دوسرا بڑا شہر ہونے کے ناطے، برامپٹن باصلاحیت لوگوں کو انتہائی پُرکشش مواقع فراہم کرتا اور یہی وجہ ہے کہ ہر سال اس میں تقریباً 14,000 نئے لوگ آباد ہو رہے ہیں۔ یہ کنیڈا میں موجود کم عمر ترین میونسپلٹی ہے جس کی اوسط عمر 36.5 سال ہے اور اس کی آبادی انتہائی متنوع ہے - یعنی اس میں 209 ثقافتوں سے تعلق رکھنے والے لوگ آباد ہیں۔ ٹیکنیکل کمپنیاں برامپٹن اور اس کی فعال اور سرگرم ٹیکنیکل کمیونٹی کی اہمیت کا اعتراف کر رہی ہیں۔ سافٹ ویئر فرم Plexxis (پلیکسس) نے حال ہی میں برامپٹن میں اپنا دفتر کھولا ہے اور یہ مشہور زمانہ کمپنیوں مثلاً راجرز اور کینن کا گھر ہے۔ چونکہ ڈاؤن ٹاؤن برامپٹن میں نئے کاروباری مواقع پیدا کرنے اور سائبرسیکورٹی پروگرامنگ کو لانے کے لیے برامپٹن، رینرسن یونیورسٹی کے ساتھ مل کر کام کر رہا ہے، لہذا صلاحیتوں کو مزید فروغ دینے اور ان میں نکھار پیدا کرنے کے نئے مواقع بھی نشوونما پا رہے ہیں۔ اس علاقے کے مثبت پہلوؤں کے اعتراف کے امکانات میں سے امیزون تو صرف ایک مثال ہے اور ہم ایسے سرمایہ کاروں کے ساتھ بھی مل کر کام کر رہے ہیں جنہوں نے CAA سائینٹ کی اہمیت کے حوالے سے سٹی کے ویژن میں اپنا کردار ادا کیا ہے اور ہم برامپٹن کے کاروباری اداروں کو بہترین فوائد پیش کر رہے ہیں۔

اقتباسات

"امیزون HQ2 کی وجہ سے برامپٹن میں تکنیکی نوعیت کی ملازمتوں کو زبردست فروغ ملے گا اور ہم پُر امید ہیں کہ ہماری معاشی فروغ کی حکمت عملیوں، CAA کی زمینوں پر ہمارے کیے جانے والے کاموں اور ہمارے پرجوش تکنیکی شعبہ کی موجودگی، برامپٹن کے 2040 ویژن کو پایہ تکمیل تک پہنچانے تک ایک نئی روح پھونکتی رہے گی۔"

- کونسلر جیف بومین، اکنامک ڈیولپمنٹ چیئر

"سرمایہ کاری کے لیے برامپٹن میں موجود عالمگیر سطح کے انتہائی موافق ماحول سے انکار نہیں کیا جا سکتا اور CAA سائیٹ کا محل وقوع ترقی کے مواقع کے حوالے سے انتہائی پرکشش ہے اور اس کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ ہم نے اپنی رسائی میں اضافہ کیا ہے اور عالمگیر سطح پر مقابلہ کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے فیصلہ ساز لوگوں کی زیادہ تعداد کو برامپٹن کے رہائشیوں کی صلاحیتوں اور تنوع کا علم ہے اور وہ مستقبل میں قابل ذکر ترقی اور سرمایہ کاری کے حوالے سے ہمیں اپنی اعلیٰ ترین منزل کے طور پر ضرور زیر غور لائیں گے۔"

- باب ڈارلنگ، ڈائریکٹر، اکنامک ڈیولپمنٹ اینڈ کلچر

30-

برامپٹن بڑا سوچ رہا ہے۔ ہم تیز توجہ کے ساتھ مستقبل کے لیے تیار ایک تنظیم ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ ہماری کمیونٹی کی بڑھوتری، نوجوانی اور تنوع ہمیں سب سے علیحدہ کرتی ہیں۔ ہم کینیڈا کے انوویشن سپر کوریڈور کے مرکز میں موجود ہیں، جو سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی کرتا ہے اور ہماری عالمی کامیابی کو بڑھاتا ہے۔ ہم متنوع آرین سبٹرز تعمیر کر رہے ہیں، جو یہاں رہنے اور کام کرنے والے لوگوں کے لیے مواقع اور ان میں فخر کا جذبہ پیدا کرتے ہیں۔ ہم برامپٹن کو ایک ایسے مربوط شہر بنانے کی جانب آگے بڑھا رہے ہیں، جو جدت پسند، جڑا ہوا اور نڈر ہو۔ ہمیں ٹوئٹر اور فیس بک پر فالو کریں۔ www.brampton.ca پر مزید جانیں۔

میڈیا کنٹیکٹ

نٹالی سٹوگڈیل

میڈیا کوآرڈینیٹر

سٹی آف برامپٹن

905.874.3654 | natalie.stogdill@brampton.ca